

Rom

Chapter 8

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, <μὴ κατὰ σάρκα
کچھ پس اب سزا ان-کے-لیے میں مسیح یسوع نہ مطابق جسم
[G3762](#) [G0686](#) [G3568](#) [G2631](#) [G3588](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3361](#) [G2596](#) [G4561](#)

περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.>
چلتے-ہیں بلکہ مطابق روح-
[G4043](#) [G0235](#) [G2596](#) [G4151](#)

جاتا۔ ٹھہرایا نہیں مجرم انہیں ہیں میں عیسیٰ مسیح جو اب

2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
- کیونکہ شریعت کی روح کی زندگی میں مسیح یسوع
[G3588](#) [G1063](#) [G3551](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3588](#) [G2222](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#)
ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ θανάτου.
آزاد-کیا تجھے سے شریعت - گناہ-کی اور موت۔
[G1659](#) [G4771](#) [G0575](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G0266](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2288](#)

ہے۔ دیا کر آزاد سے شریعت کی موت اور گناہ تجھے ہے کرتی عطا زندگی میں مسیح ہمیں جو نے شریعت کی روح کیونکہ

3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός,
- کیونکہ ناممکن کی شریعت میں جس-میں جو کمزور-تھی کے-ذریعے جسم
[G3588](#) [G1063](#) [G0102](#) [G3588](#) [G3551](#) [G1722](#) [G3739](#) [G0770](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4561](#)
ὁ Θεὸς, τὸν ἑαυτοῦ Υἱὸν πέμψας, ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας, καὶ
- خدا-نے - اپنے بیٹے بھیج-کر میں مشابہت جسم-کی گناہ-کے اور
[G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1438](#) [G5207](#) [G3992](#) [G1722](#) [G3667](#) [G4561](#) [G0266](#) [G2532](#)
περὶ ἁμαρτίας, κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,
کے-لیے گناہ مجرم-ٹھہرایا - گناہ-کو میں جسم
[G4012](#) [G0266](#) [G2632](#) [G3588](#) [G0266](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4561](#)

نے اُس تھا۔ نہ میں بس کے شریعت جو کیا کچھ وہ نے اللہ لئے اس سکی۔ بچا نہ ہمیں سے وجہ کی حالت کمزور کی فطرت پرانی ہماری شریعت موسوی
ٹھہرایا مجرم کو گناہ موجود میں فطرت پرانی نے اللہ طرح اس دے۔ کفارہ کا گناہوں ہمارے کے کر اختیار جسم سا کا گناہ وہ تاکہ دیا بھیج فرزند اپنا

4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ σάρκα
تاکہ - مطالبہ کا شریعت پورا-ہو میں ہم - نہ مطابق جسم
[G2443](#) [G3588](#) [G1345](#) [G3588](#) [G3551](#) [G4137](#) [G1722](#) [G1473](#) [G3588](#) [G3361](#) [G2596](#) [G4561](#)
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.
چلتے-ہیں بلکہ مطابق روح-
[G4043](#) [G0235](#) [G2596](#) [G4151](#)

ہیں۔ چلتے مطابق کے روح بلکہ نہیں مطابق کے فطرت پرانی جو ہم جائے، ہو پورا تقاضا کا شریعت میں ہم تاکہ

5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες, τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν; οἱ δὲ κατὰ
جو کیونکہ مطابق جسم ہیں چیزیں کی جسم سوچتے-ہیں؛ جو لیکن مطابق
[G3588](#) [G1063](#) [G2596](#) [G4561](#) [G1510](#) [G3588](#) [G3588](#) [G4561](#) [G5426](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2596](#)
πνεῦμα, τὰ τοῦ πνεύματος.
روح چیزیں کی روح-
[G4151](#) [G3588](#) [G3588](#) [G4151](#)

ہیں۔ رکھتے سوچ روحانی وہ ہیں میں اختیار کے روح پرانی وہ ہیں میں اختیار کے فطرت پرانی جو

6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος; τὸ δὲ φρόνημα τοῦ
 - کیونکہ ذہن - کی جسم موت؛ لیکن ذہن - کی
[G3588](#) [G1063](#) [G5427](#) [G3588](#) [G4561](#) [G2288](#) [G3588](#) [G1161](#) [G5427](#) [G3588](#)

πνεύματος, ζωὴ καὶ εἰρήνη.
 روح اور سلامتی۔
[G4151](#) [G2222](#) [G2532](#) [G1515](#)

ہے۔ کرتی پیدا سلامتی اور زندگی سوچ کی روح جبکہ ہے موت انجام کا سوچ کی فطرت پرانی

7 διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν; τῷ γὰρ νόμῳ
 کیونکہ - ذہن - کی جسم دشمنی کے - خلاف؛ خدا؛ - کیونکہ کے
[G1360](#) [G3588](#) [G5427](#) [G3588](#) [G4561](#) [G2189](#) [G1519](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1063](#) [G3551](#)

τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται; οὐδὲ γὰρ δύναται.
 - خدا کی نہیں مطیع؛ نہ ہی کیونکہ ہو سکتی۔
[G3588](#) [G2316](#) [G3756](#) [G5293](#) [G3761](#) [G1063](#) [G1410](#)

ہے۔ سکتی کر ایسا ہی نہ رکھتی، نہیں تابع کے شریعت کی اللہ کو آپ اپنے یہ ہے۔ رکھتی دشمنی سے اللہ سوچ کی فطرت پرانی

8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες, Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύναται.
 جو اور میں جسم ہیں خدا کو خوش کرنا نہیں کر سکتے۔
[G3588](#) [G1161](#) [G1722](#) [G4561](#) [G1510](#) [G2316](#) [G0700](#) [G3756](#) [G1410](#)

ہیں۔ میں اختیار کے فطرت پرانی جو سکتے آپ نہیں پسند کو اللہ لوگ وہ لئے اس

9 Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ
 تم اور نہیں ہو میں جسم بلکہ میں روح اگر واقعی روح خدا کی
[G4771](#) [G1161](#) [G3756](#) [G1510](#) [G1722](#) [G4561](#) [G0235](#) [G1722](#) [G4151](#) [G1512](#) [G4151](#) [G2316](#)

οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ
 بستی ہے میں تم؛ اگر اور کسی کے پاس روح مسیح کی نہیں ہے وہ نہیں
[G3611](#) [G1722](#) [G4771](#) [G1487](#) [G1161](#) [G5100](#) [G4151](#) [G5547](#) [G3756](#) [G2192](#) [G3778](#) [G3756](#)

ἔστιν αὐτοῦ.
 ہے اُس کا۔
[G1510](#) [G0846](#)

نہیں روح کا مسیح میں کسی اگر ہو۔ ہوا بسا میں آپ القدس روح کہ ہے یہ شرط ہیں۔ میں اختیار کے روح بلکہ نہیں میں اختیار کے فطرت پرانی آپ لیکن
 نہیں۔ کا مسیح وہ تو

10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν,
 اگر لیکن مسیح ہے تم میں - تو جسم مُردہ کی وجہ سے گناہ
[G1487](#) [G1161](#) [G5547](#) [G1722](#) [G4771](#) [G3588](#) [G3303](#) [G4983](#) [G3498](#) [G1223](#) [G0266](#)

τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.
 - لیکن روح زندگی سے کی وجہ سے راستبازی۔
[G3588](#) [G1161](#) [G4151](#) [G2222](#) [G1223](#) [G1343](#)

باعث کا زندگی لئے کے آپ سے وجہ کی ٹھہرانے باز راست کو آپ القدس روح جبکہ ہے مُردہ سے وجہ کی گناہ بدن کا آپ پھر تو ہے میں آپ مسیح اگر لیکن
 ہے۔

- 11 εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ
 اگر اور - روح کے - جی-اُٹھانے والے کو میں سے مُردوں بستے-بے
[G1487](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3588](#) [G1453](#) [G3588](#) [G2424](#) [G1537](#) [G3498](#) [G3611](#)
- ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας «ἐκ νεκρῶν» Χριστὸν Ἰησοῦν ζωοποιήσῃ καὶ τὰ
 میں تم نے جس-نے جی-اُٹھایا میں سے مُردوں مسیح یسوع زندہ-کرے گا بھی کو
[G1722](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1453](#) [G1537](#) [G3498](#) [G5547](#) [G2424](#) [G2227](#) [G2532](#) [G3588](#)
- θνητὰ σώματα ὑμῶν, διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν.
 فانی جسموں تمہارے کے-ذریعے - بسی-بوئی اُس-کی روح میں تم۔
[G2349](#) [G4983](#) [G4771](#) [G1223](#) [G3588](#) [G1774](#) [G0846](#) [G4151](#) [G1722](#) [G4771](#)

فانی کے آپ ذریعے کے اِس اللہ لئے اِس بے بستہ میں آپ القدس روح چونکہ اور کیا۔ زندہ سے میں مُردوں کو عیسیٰ نے جس بے بستہ میں آپ روح کا اُس
 گا۔ کرے زندہ طرح کی مسیح بھی کو بدنوں

- 12 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκί, τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν.
 پس لہذا بھائیو قرضدار ہم-ہیں نہیں کے-جسم - جسم مطابق جسم جینے۔
[G0686](#) [G3767](#) [G0080](#) [G3781](#) [G1510](#) [G3756](#) [G3588](#) [G4561](#) [G3588](#) [G2596](#) [G4561](#) [G2198](#)

کرے۔ مجبور پر گزارنے زندگی مطابق اپنے ہمیں کہ رہا نہ حق کوئی کا فطرت پرانی ہماری بھائیو، میرے چنانچہ

- 13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν; εἰ δὲ πνεύματι, τὰς
 اگر کیونکہ مطابق جسم جسم جیتے-ہو تم-کرو-گے مرنا؛ لیکن روح سے -
[G1487](#) [G1063](#) [G2596](#) [G4561](#) [G2198](#) [G3195](#) [G0599](#) [G1487](#) [G1161](#) [G4151](#) [G3588](#)
- πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε.
 اعمال کے-جسم مارتے-ہو جیو-گے۔
[G4234](#) [G3588](#) [G4983](#) [G2289](#) [G2198](#)

غلط کے فطرت پرانی اپنی سے قوت کی القدس روح آپ اگر لیکن گے۔ جائیں ہو ہلاک آپ تو گزاریں زندگی مطابق کے فطرت پرانی اپنی آپ اگر کیونکہ
 گے۔ رہیں زندہ آپ پھر تو کریں نابود و نیست کو کاموں

- 14 ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ εἰσιν. Θεοῦ
 جتنے کیونکہ روح سے خدا-کی خدا-جائے-ہیں یہ بیٹے ہیں خدا-کے۔
[G3745](#) [G1063](#) [G4151](#) [G2316](#) [G0071](#) [G3778](#) [G5207](#) [G1510](#) [G2316](#)

بے۔ فرزند کا اللہ وہ بے کرتا القدس روح راہنمائی بھی کی جس

- 15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε
 نہیں کیونکہ تم-نے-پایا روح غلامی-کی پھر کی-طرف خوف بلکہ تم-نے-پایا
[G3756](#) [G1063](#) [G2983](#) [G4151](#) [G1397](#) [G3825](#) [G1519](#) [G5401](#) [G0235](#) [G2983](#)

πνεῦμα υἰοθεσίας, ἐν ᾧ κρίζομεν, Ἄββᾶ! ὁ Πατήρ!
 روح کے-ذریعے لے-پالکی-کی جس کے-پکارتے-ہیں ابا! - باپ!
[G4151](#) [G5206](#) [G1722](#) [G3739](#) [G2896](#) [G0005](#) [G3588](#) [G3962](#)

ہم ذریعے کے اُسی اور ہے، دیا بنا فرزند کے اللہ کو آپ بلکہ رکھا نہیں میں حالت زدہ خوف کر بنا غلام کو آپ نے اُس بے دیا کو آپ روح جو نے اللہ کیونکہ
 ہیں۔ سکتے کہہ باپ اے یعنی ابا کو اللہ کر پکار

- 16 αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, ὅτι ἐσμέν τέκνα Θεοῦ.
 خود - روح گواہی-دیتی-ہے - گواہی-کے-ساتھ ہماری کہ ہم-ہیں بچے خدا-کے۔
[G0846](#) [G3588](#) [G4151](#) [G4828](#) [G3588](#) [G4151](#) [G1473](#) [G3754](#) [G1510](#) [G5043](#) [G2316](#)

ہیں۔ فرزند کے اللہ ہم کہ بے دیتا گواہی کر مل ساتھ کے روح ہماری خود القدس روح

17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι: κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συνκληρονόμοι δὲ
 اور اور بچے تو وارث: وارث تو خدا-کے شریک-وارث اور
[G1487](#) [G1161](#) [G5043](#) [G2532](#) [G2818](#) [G2818](#) [G3303](#) [G2316](#) [G4789](#) [G1161](#)

Χριστοῦ; εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.
 مسیح-کے؛ بچے-واقعی اگر-واقعی ہم-دکھ-بھریں تاکہ بھی ہم-جلال-پائیں۔
[G5547](#) [G1512](#) [G4841](#) [G2443](#) [G2532](#) [G4888](#)

جلال کے اُس تو ہوں شریک میں دُکھ کے مسیح ہم اگر کیونکہ میراث۔ ہم کے مسیح اور وارث کے اللہ ہیں، وارث ہم لئے اِس ہیں فرزند کے اُس ہم چونکہ اور
 گے۔ ہوں شریک بھی میں

18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν, καιροῦ πρὸς
 میں-سمجھتا-ہوں کیونکہ کہ نہیں قابل-مقابلہ دکھ - موجودہ وقت کے
[G3049](#) [G1063](#) [G3754](#) [G3756](#) [G0514](#) [G3588](#) [G3804](#) [G3588](#) [G3568](#) [G2540](#) [G4314](#)

τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.
 آنے-والی - جلال ظاہر-ہونے-والی پر ہم۔
[G3588](#) [G3195](#) [G1391](#) [G0601](#) [G1519](#) [G1473](#)

گاہو ظاہر پر ہم جو نہیں بھی کچھ نسبت کی جلال والے آنے اُس دُکھ موجودہ ہمارا میں خیال میرے

19 ἡ γὰρ ἀποκαρδοκία τῆς κτίσεως, τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἰῶν τοῦ
 - کیونکہ انتظار کی مخلوق - ظہور کے بیٹوں -
[G3588](#) [G1063](#) [G0603](#) [G3588](#) [G2937](#) [G3588](#) [G0602](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#)

Θεοῦ ἀπεκδέχεται.
 خدا-کے انتظار-کرتی-ہے۔
[G2316](#) [G0553](#)

جائیں، بو ظاہر فرزند کے اللہ کہ بے تڑپتی لئے کے دیکھنے یہ کائنات تمام ہاں،

20 τῇ γὰρ ματαιότητι, ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ
 - کیونکہ بطلالت - مخلوق محکوم-ہوئی نہیں اپنی-مرضی-سے بلکہ کی-وجہ-سے
[G3588](#) [G1063](#) [G3153](#) [G3588](#) [G2937](#) [G5293](#) [G3756](#) [G1635](#) [G0235](#) [G1223](#)

τὸν ὑποτάξαντα -- ἐφ' ἐλπίδι,
 محکوم-کیا جس-نے امید میں
[G3588](#) [G5293](#) [G1909](#) [G1680](#)

امید یہ تو بھی بھیجی۔ لعنت یہ پر اُس نے جس تھی مرضی کی اللہ بلکہ نہیں اپنی کی اُس یہ ہے۔ گئی ہو فانی کر آ تحت کے لعنت کی اللہ کائنات کیونکہ
 گئی دلائی

21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς
 کہ بھی خود - مخلوق آزاد-ہو-گی سے - غلامی -
[G3754](#) [G2532](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2937](#) [G1659](#) [G0575](#) [G3588](#) [G1397](#) [G3588](#)

φθορᾶς, εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.
 فنا-کی میں - آزادی کی - جلال کے - بچوں - خدا۔
[G5356](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1657](#) [G3588](#) [G1391](#) [G3588](#) [G5043](#) [G3588](#) [G2316](#)

گی۔ جائے بو شریک میں آزادی جلالی کی فرزندوں کے اللہ وہ وقت اُس گا۔ جائے چھڑایا سے غلامی کی حالت فانی کی اُس خود کو کائنات دن ایک کہ۔

22 οἶδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ
 ہم-جانتے-ہیں کیونکہ کہ ساری - مخلوق کراہتی-ہے اور درد-زہ-میں-ہے۔ تک -
[G1492](#) [G1063](#) [G3754](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2937](#) [G4959](#) [G2532](#) [G4944](#) [G0891](#) [G3588](#)

νῦν.
 اب۔
[G3568](#)

بے-ربتی تڑپتی میں زہ درد اور کراہتی کائنات تمام تک آج کہ ہیں جانتے ہم کیونکہ

23	οὐ	μόνον	δέ,	ἀλλὰ	καὶ	αὐτοὶ,	τὴν	ἀπαρχὴν	τοῦ	Πνεύματος	ἔχοντες,
	نہ	صرف	اور	بلکہ	بھی	ہم-خود	-	پہلا-پہل	کے	روح	رکھتے-ہوئے
	G3756	G3440	G1161	G0235	G2532	G0846	G3588	G0536	G3588	G4151	G2192
	ἡμεῖς	καὶ	αὐτοὶ	ἐν	ἑαυτοῖς	στενάζομεν,	υἰοθεσίαν	ἀπεκδεχόμενοι,	τὴν		
	ہم	بھی	خود	میں	اپنے-اندر	کراہتے-ہیں	لے-پالکی	انتظار-کرتے-ہوئے	-		
	G1473	G2532	G0846	G1722	G1438	G4727	G5206	G0553	G3588		
	ἀπολύτρωσιν	τοῦ	σώματος	ἡμῶν.							
	مخلصی	کے	جسم	ہمارے۔							
	G0629	G3588	G4983	G1473							

کراہتے کراہتے ہم ہے۔ چکا مل میں صورت کی القدس روح پہل پہلا کا جلال والے آنے ہمیں گو ہیں، کراہتے اندر ہی اندر بھی خود ہم بلکہ کائنات صرف نہ ملے۔ نجات کو بدنوں ہمارے اور ہیں فرزند کے اللہ ہم کہ جائے ہو ظاہر بات یہ کہ ہیں میں انتظار اس سے شدت

24	τῇ	γὰρ	ἐλπίδι	ἐσώθημεν;	ἐλπίς	δὲ	βλεπομένη,	οὐκ	ἔστιν	ἐλπίς;	ὁ
	اسی	کیونکہ	امید-میں	ہم-بچے؛	امید	لیکن	دیکھی-ہوئی	نہیں	ہے	امید؛	جو
	G3588	G1063	G1680	G4982	G1680	G1161	G0991	G3756	G1510	G1680	G3739
	γὰρ	βλέπει	τις,	τί	ἐλπίζει?						
	کیونکہ	دیکھتا-ہے	کوئی	کیوں	امید-رکھے؟						
	G1063	G0991	G5101	G5101	G1679						

کی اُس کون ہوتی۔ نہ اُمید حقیقت در یہ تو رکھتے ہم اُمید کی جس ہوتا چکا آ نظر کچھ وہ اگر لیکن گئی۔ دلائل اُمید یہ ہمیں وقت پاتے نجات کیونکہ ہے؟ چکا آ نظر اُسے جو رکھے اُمید

25	εἰ	δὲ,	ὁ	οὐ	βλέπομεν,	ἐλπίζομεν,	δι’	ὑπομονῆς	ἀπεκδεχόμεθα.
	اگر	لیکن	جو	نہیں	ہم-دیکھتے	ہم-امید-رکھتے-ہیں	میں	صبر	ہم-انتظار-کرتے-ہیں۔
	G1487	G1161	G3739	G3756	G0991	G1679	G1223	G5281	G0553

کریں۔ انتظار کا اُس سے صبر ہم کہ ہے لازم تو آیا نہیں نظر ابھی جو ہیں رکھتے اُمید کی اُس ہم چونکہ لیکن

26	Ὡσαύτως	δὲ	καὶ,	τὸ	Πνεῦμα	συναντιλαμβάνεται	τῇ	ἀσθενείᾳ	ἡμῶν;	τὸ	
	اسی-طرح	اور	بھی	-	روح	مدد-کرتی-ہے	-	کمزوری-میں	ہماری؛	-	
	G5615	G1161	G2532	G3588	G4151	G4878	G3588	G0769	G1473	G3588	
	γὰρ	τί	προσευξώμεθα	καθὸ	δεῖ,	οὐκ	οἶδαμεν,	ἀλλὰ	αὐτὸ	τὸ	Πνεῦμα
	کیونکہ	جو	ہم-دعا-کریں	جیسے	چاہے	نہیں	ہم-جانتے	لیکن	خود	-	روح
	G1063	G5101	G4336	G2526	G1163	G3756	G1492	G0235	G0846	G3588	G4151
	ὑπερευγγάχει,	στεναγμοῖς	ἀλαλήτοις.								
	سفارش-کرتی-ہے	کراہتوں-سے	بے-بیان۔								
	G5241	G4726	G0215								

خود القدس روح لیکن مانگیں۔ دعا مناسب طرح کس کہ جانتے نہیں ہم کیونکہ ہے، کرتا مدد ہماری میں حالت کمزور ہماری بھی القدس روح طرح اسی ہے۔ کرتا شفاعت ہماری ہوئے بھرتے آہیں بیان ناقابل

27	ὁ	δὲ	ἐραυνῶν	τὰς	καρδίας,	οἶδεν	τί	τὸ	φρόνημα	τοῦ	Πνεύματος,
	جو	اور	جانچنے-والا	-	دلوں-کو	جانتا-ہے	کیا	-	ذہن	کا	روح
	G3588	G1161	G2045	G3588	G2588	G1492	G5101	G3588	G5427	G3588	G4151
	ὅτι	κατὰ	Θεὸν,	ἐντυγγάχει	ὑπὲρ	ἀγίων.					
	کیونکہ	مطابق	خدا-کے	سفارش-کرتی-ہے	کے-لیے	مقدسوں۔					
	G3754	G2596	G2316	G1793	G5228	G0040					

ہے۔ کرتا شفاعت کی مُقدّسین مطابق کے مرضی کی اللہ روح پاک کیونکہ ہے، جانتا کو سوچ کی القدس روح ہے کرتا تحقیق کی دلوں تمام جو باپ خدا اور

28 Οἶδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν Θεὸν, πάντα συνεργεῖ (ὁ
 - مل-کر-کام-کرتا-ہے سب-کچھ خدا-سے - محبت-کرتے-ہیں جو کہ اور ہم-جانتے-ہیں
[G1492](#) [G1161](#) [G3754](#) [G3588](#) [G0025](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3956](#) [G4903](#) [G3588](#)

θεὸς) εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.
 خدا کے-لیے بھلائی جو مطابق ارادے بُلائے-گئے ہیں۔
[G2316](#) [G1519](#) [G0018](#) [G3588](#) [G2596](#) [G4286](#) [G2822](#) [G1510](#)

ہیں۔ گئے بُلائے مطابق کے ارادے کے اُس جو لئے کے اُن ہے، بنتا باعث کا بھلائی کر مل کچھ سب لئے کے اُن ہیں رکھتے محبت سے اللہ جو کہ ہیں جانتے ہم اور

29 ὅτι οὐς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ
 کیونکہ جنہیں جانا اُس نے پہلے سے۔ جانی بھی اُنہیں مقرر کیا ہم شکل کی صورت کے بیٹے
[G3754](#) [G3739](#) [G4267](#) [G2532](#) [G4309](#) [G4832](#) [G3588](#) [G1504](#) [G3588](#) [G5207](#)

αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς.
 اُس کے تاکہ - ہو وہ پہلوٹھا میں بہت بھائیوں۔
[G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1510](#) [G0846](#) [G4416](#) [G1722](#) [G4183](#) [G0080](#)

بہت مسیح یوں اور جائیں بن شکل ہم کے فرزند کے اُس وہ کہ کیا مقرر لئے کے اِس اُنہیں سے پہلے نے اُس لیا، چن کو لوگوں اپنے سے پہلے نے اللہ کیونکہ
 ہو۔ پہلوٹھا میں بھائیوں سے

30 οὐς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν; καὶ οὐς ἐκάλεσεν, τούτους
 جنہیں اور مقرر کیا اُنہیں بھی بُلایا؛ اور جنہیں اور بُلایا اُنہیں
[G3739](#) [G1161](#) [G4309](#) [G3778](#) [G2532](#) [G2564](#) [G2532](#) [G3739](#) [G2564](#) [G3778](#)

καὶ ἐδικαίωσεν; οὐς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν.
 بھی راستباز-ٹھہرایا؛ جنہیں اور راستباز-ٹھہرایا اُنہیں بھی جلال-بخشا۔
[G2532](#) [G1344](#) [G3739](#) [G1161](#) [G1344](#) [G3778](#) [G2532](#) [G1392](#)

ٹھہرایا باز راست نے اُس جنہیں اور ٹھہرایا بھی باز راست نے اُس اُنہیں بُلایا نے اُس جنہیں بھی، بُلایا نے اُس اُنہیں کیا مقرر سے پہلے نے اُس جنہیں لیکن
 بخشا۔ بھی جلال نے اُس اُنہیں

31 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα? εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ'
 کیا پھر ہم کہیں گے۔ میں کے بارے میں؟ ان باتوں؟ اگر خدا کے لیے خدا ہمارے کون خلاف
[G5101](#) [G3767](#) [G2046](#) [G4314](#) [G3778](#) [G1487](#) [G3588](#) [G2316](#) [G5228](#) [G1473](#) [G5101](#) [G2596](#)

ἡμῶν?
 ہمارے؟
[G1473](#)

ہے؟ سکتا ہو خلاف ہمارے کون تو ہے میں حق ہمارے اللہ اگر کہیں؟ کیا ہم میں جواب کے باتوں تمام ان

32 ὃς γε τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων
 جس نے تو اپنے کو نہیں بخشا بلکہ کے لیے ہم سب کے
[G3739](#) [G1065](#) [G3588](#) [G2398](#) [G5207](#) [G3756](#) [G5339](#) [G0235](#) [G5228](#) [G1473](#) [G3956](#)

παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ, τὰ πάντα ἡμῖν, χαρίσεται?
 دے دیا اُسے کیسے نہیں بھی ساتھ اُس کے چیزیں سب ہمیں بخشے گا؟
[G3860](#) [G0846](#) [G4459](#) [G3780](#) [G2532](#) [G4862](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1473](#) [G5483](#)

سب ساتھ کے اُس ہمیں وہ کیا دیا دے کو فرزند اپنے ہمیں نے جس دیا۔ کر حوالے کے دشمن لئے کے سب ہم اُسے بلکہ کیا نہ دریغ بھی کو فرزند اپنے نے اُس
 گا؟ دے نہیں مفت کچھ

33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ? Θεὸς ὁ δικαίων.
 کون الزام لگائے گا خلاف کے برگزیدوں خدا؟ خدا جو راستباز-ٹھہراتا ہے۔
[G5101](#) [G1458](#) [G2596](#) [G1588](#) [G2316](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1344](#)

ہے؟ دیتا قرار باز راست اُنہیں خود اللہ جب گا لگائے الزام پر لوگوں ہوئے چنے کے اللہ کون اب

34 τίς ό κατακρινών? Χριστός Ἰησοῦς ό άποθανών, μάλλον δε έγερθείς
 کون جو مجرم-ٹھرائے؟ مسیح یسوع جو مرا بلکہ اور جی-اُنھا
[G5101](#) [G3588](#) [G2632](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3588](#) [G0599](#) [G3123](#) [G1161](#) [G1453](#)

(έκ νεκρών), ός <καί> έστιν έν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ός και έντυγχάνει
 سے مُردوں - بھی ہے پر دابنہ-باتھ - خدا-کے - اور ہے سفارش-کرتا-ہے
[G1537](#) [G3498](#) [G3739](#) [G2532](#) [G1510](#) [G1722](#) [G1188](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3739](#) [G2532](#) [G1793](#)

ύπέρ ήμῶν.
 کے-لیے -ہم
[G5228](#) [G1473](#)

دبنے کے اللہ وہ اور گیا کیا زندہ اُسے ہوا۔ زیادہ بھی سے اس خاطر ہماری بلکہ دی؟ جان اپنی لئے ہمارے نے عیسیٰ مسیح جب گا ٹھرائے مجرم ہمیں کون ہے۔ کرتا شفاعت ہماری وہ جہاں گیا، بیٹھ باتھ

35 τίς ήμᾶς χωρίσει άπό τής άγάπης τοῦ Χριστοῦ? θλίψις, ή στενοχωρία,
 کون ہمیں جدا-کے-گا سے - محبت - مسیح-کی؟ مصیبت یا تنگی
[G5101](#) [G1473](#) [G5563](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2347](#) [G2228](#) [G4730](#)

ή διωγμός, ή λιμός, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα?
 یا ظلم یا قحط یا برہنگی یا خطرہ یا تلوار؟
[G2228](#) [G1375](#) [G2228](#) [G3042](#) [G2228](#) [G1132](#) [G2228](#) [G2794](#) [G2228](#) [G3162](#)

تلوار؟ یا خطرہ ننگاپن، کال، رسانی، ایذا تنگی، مصیبت، کوئی کیا گا؟ کرے جدا سے محبت کی مسیح ہمیں کون غرض

36 καθώς γέγραπται, ότι "Ενεκεν σοῦ, θανατούμεθα όλην τήν ήμέραν;
 جیسے لکھا-ہے - خاطر تیری ہم-مارے-جاتے-ہیں سارا - دن؛
[G2531](#) [G1125](#) [G3754](#) [G1752](#) [G4771](#) [G2289](#) [G3650](#) [G3588](#) [G2250](#)

έλογίσθημεν ώς πρόβατα σφαγής.
 ہم-سمجھے-گئے جیسے بھیڑیں ذبح-کی۔
[G3049](#) [G5613](#) [G4263](#) [G4967](#)

ہیں۔ سمجھتے برابر کے بھیڑوں والی ہونے ذبح ہمیں لوگ ہے، پڑتا کرنا سامنا کا موت بھر دن ہمیں خاطر تیری ہے، لکھا میں مُقدّس کلام جیسے

37 άλλ' έν τούτοις πᾶσιν, ύπερникῶμεν διὰ τοῦ άγαπήσαντος ήμᾶς.
 لیکن میں ان-سب سارے ہم-فاتح-ہیں کے-ذریعے جس-نے محبت-کی ہم-سے۔
[G0235](#) [G1722](#) [G3778](#) [G3956](#) [G5245](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0025](#) [G1473](#)

ہیں۔ پاتے فتح زبردست رُوپرو کے خطروں سب ان ہم سے وسیلے کے اُس ہے۔ رکھتا محبت سے ہم اور ہے ساتھ ہمارے مسیح کیونکہ نہیں، بات کوئی

38 πέπεισμαι γάρ ότι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε άγγελιοι, οὔτε άρχαι,
 میں-یقین-رکھتا-ہوں کیونکہ کہ نہ موت نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں
[G3982](#) [G1063](#) [G3754](#) [G3777](#) [G2288](#) [G3777](#) [G2222](#) [G3777](#) [G0032](#) [G3777](#) [G0746](#)

οὔτε ένεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε δυνάμεις,
 نہ حاضرہ نہ آئندہ نہ طاقتیں
[G3777](#) [G1764](#) [G3777](#) [G3195](#) [G3777](#) [G1411](#)

مستقبل، نہ اور حال نہ حکمران، نہ اور فرشتے نہ زندگی، نہ اور موت نہ سکتی: کر نہیں جدا چیز کوئی سے محبت کی اُس ہمیں کہ ہے یقین مجھے کیونکہ طاقتیں، نہ

39 οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τις κτίσις έτέρα, δυνήσεται ήμᾶς χωρίσαι
 نہ بلندی نہ گہرائی نہ کوئی مخلوق اور قادر-ہو-گی ہمیں جدا-کرنے
[G3777](#) [G5313](#) [G3777](#) [G0899](#) [G3777](#) [G5100](#) [G2937](#) [G2087](#) [G1410](#) [G1473](#) [G5563](#)

άπό τής άγάπης τοῦ Θεοῦ, τής έν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Κυρίῳ ήμῶν.
 سے - محبت - خدا-کی جو میں مسیح اور یسوع - خداوند ہمارے۔
[G0575](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#)

بے-حاصل میں عیسیٰ مسیح خداوند ہمارے ہمیں جو گی سکے کر جدا سے محبت اُس کی اللہ ہمیں مخلوق اور کوئی نہ فراز، نہ اور نشیب نہ